

# امام احمد رضا

اور

## اصلاح معاشرہ

تالیف

محمد قمر الزماں مصباحی

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان)

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھادہ، کراچی، فون: 2439799

نام کتاب : امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ

مؤلف : محمد قمر الزماں مصباحی

سن اشاعت : صفر المظفر ۱۴۳۰ھ / فروری ۲۰۰۹ء

تعداد اشاعت : ۳۰۰۰

ناشر : جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان)

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھادہ، کراچی، فون: 2439799

خوشخبری: یہ رسالہ website: www.ishaateislam.net

پر موجود ہے۔

## پیش لفظ

اسلام ایک ستھرا اور پاکیزہ دینِ فطرت ہے، جو نبی پاک ﷺ کے صدقے و وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا، جس نے کائنات کی تاریکیوں کو اپنی تعلیمات کے نور سے روشن و منور کیا۔

معاشرہ کی بنیاد اس کے افراد، تہذیب و تمدن، عقائد، رہن سہن کے طریقے پر ہوتی ہے، جو کسی مذہب کے پیرو ہوتا ہے اس حال میں جب معاشرہ برائیوں، فسادات، عقائدِ باطلہ کا پرچار اور طرح طرح کے دیگر مسائل سے دوچار ہو اس وقت ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ کوئی مرد مجاہدانہ تمام مسائل کا حل اور معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرے، ایسے میں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سرفہرست ہے جنہوں نے اپنی قلمی کاوشوں اور جہاد کی بناء پر باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مذہبِ حق اسلام کا صحیح آئینہ پیش کیا اور فرقہ واریت کا خاتمہ کیا، کون کہتا ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ واریت کی داغ بیل ڈالی بلکہ انہوں نے تو تمام باطل فرقوں و ہابی، دیوبندی، شیعہ، غیر مقلد، نیچری، پرویزی اور دیگر کی مخالفت کی اور ان کے باطل عقائد کا رد کیا، بدعاتِ سیدہ کا قلع قمع کیا اور اسلام کی حقانیت کے نور کو مسلمانوں کے دلوں میں رچایا بسایا، عشقِ رسول ﷺ کی شمع روشن کی اور باور کرایا کہ یہی ایمان کی جان ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصلاحِ معاشرہ کے حوالے سے آپ کی خدمات کا احاطہ بہت مشکل امر ہے

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

چاروں طرف ہیں دین کے دشمن بچ میں تنہا احمد رضا  
ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں  
صحرائے نجد کے جو پڑنے اڑا گیا

آیا نہ کوئی شہید احمد رضا کے بعد  
خود فرماتے ہیں:

وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے  
کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے  
کلک رضا ہے خنجرِ خونخوار برق بار  
اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں  
کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندوں اُس پہ یہ جراتیں  
ارے کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں

زیر نظر کتاب محمد قمر الزمان مصباحی کی مختصر مگر دیدہ زیب تصنیف ہے آپ نے بہت جامع اور مختصر انداز میں امام اہلسنت رضی اللہ عنہ کی خدمات کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اسے جمعیت اشاعت اہلسنت اپنے ماہانہ رسالہ میں 178 نمبر پر شائع کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مصنف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور عوام و خواص کے لئے اس کتاب کو نافع و ناصح اور جمعیت اشاعت اہلسنت کے اراکین و جملہ مؤمنین کے لئے شافع بنائے۔

طالب علم جامعۃ النور

محمد رضوان کاسمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## نگاہِ اولیں

امام احمد رضا قدس سرہ ایک بالغ نظر فقیہ نکتہ رس مصنف، نابغہ روزگار محقق، بلند پایہ محدث و مفسر اور دنیا کے سنیّت کے اس مجدد و اعظم کا نام ہے جسے قدرت نے روز اول میں ہی اپنے دین حنیف کی حفاظت، مذہب حق کی صیانت، شریعت مقدسہ کی بقاء اور ایمانی سوز و حرارت کے تحفظ کے لئے منتخب فرمایا تھا۔

خانقاہ سے لے کر درس گاہ تک اسلامی مراسم شرعی معمولات اور مذہبی تقدس کی جو بہار ہے اسی مرد قلندر کی رہین منت ہے اور آج ایمانی حرارت و پاکیزگی کی ساری لذتیں اسی روحانی مقتداء کی آہ صبح آگاہی اور مالہ شمس کا نتیجہ ہے۔

یہ ایک سچائی ہے کہ مجدد اپنے وقت کی ضرورت اور اپنے عصر کی پکار ہوتا ہے جس سے لوگ اکتساب فیض کرتے ہیں۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ نے جب شعور کی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہابی تحریک کی ساری انرجی ایمان و عقیدے کی روح کو فنا کرنے پر صرف ہو رہی ہے۔ بد عقیدگی کے کھرے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور فاسد خیالات کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، تنقیص الوہیت اور اہانت رسالت سے مملو تحریروں کو دیکھ کر آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ جسم کے روٹے کھڑے ہو گئے، دل خون کے آنسو رونے لگا کرب کا یہ عالم کہ کسی پہلو قرار نہیں اور قرار ملتا بھی کیسے جس کے نزدیک ایمان کی آوازیہ ہے ع

دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا  
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا  
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے  
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا

جان ہے عشقِ مصطفیٰ روزِ فزوں کرے خدا

جس کو ہو درد کا مزا مانے دوا اٹھائے کیوں

مسئلہ صرف اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کا نہیں تھا اگر صرف اپنی بات ہوتی تو جس معطر فضا اور پاکیزہ ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس کے کنج خمولی میں بیٹھ کر صرف سجدہ کرتے جب بھی بد عقیدگی کے ناپاک سائے قریب آنے سے لرز جاتے مگر بات پوری ملت کی تھی معاشرے اور سماج کی تھی، پوری انسانیت کی تھی، اسلامی کلچر اور تہذیب کی تھی، قوم کے نونہالوں اور مستقبل کی ان تازہ فصلوں کی تھی جسے لہلہانے سے پہلے بادِ سموم مرجھانہ دیں، چنانچہ بصیرت و بصارت حکمت و دانائی۔ عشق و یقین اخلاص و ایثار، ایمان و عرفان اور عزم و حوصلے کی بھرپور توانائی کے ساتھ تجدیدی صلاحیتوں سے لیس ہو کر برکاتی کچھار کے اس شیر نے عصری تقاضوں کے چیلنج کو قبول کیا شرارِ بولہبی کی تیز آندھیوں میں چراغِ مصطفوی کو روشن کیا، ملت کی سچی رہنمائی فرمائی۔ شریعت سے متصادم رسوم کا خاتمہ فرما کر اسلام کے درخشاں اصول بتائے، بدعات و خرافات کے تاج محل پر چھاپہ ماری کی، روحوں کی طہارت فرمائی، قلم کی آوارگی کو لگام دیا، غلط افکار و نظریات پر پھرے بٹھائے، آزادی فکر کو ہمیز دی، ایقان و عرفان کو صبحِ مسرت کا اجالا بخشا۔ دلوں کو عشقِ رسالت کا نور و سرور عطا کیا، فتنہ اندر کا ہویا باہر کا سب کو دبایا، ہر ایک کا محاسبہ کیا، ہر ایک کی خیریت پوچھی اور اصلاح و تذکیر، دعوت الی اللہ، تبلیغ و ارشاد اور ابلاغ حق کی راہ میں مسلسل چوٹ کھاتے رہے، آگے بڑھتے رہے حوصلوں میں تازگی آتی رہی، عشق نکھرتا رہا اور محبت رسول کے جلوؤں میں گم ہوتے رہے، نہ تنہائی کا شکوہ، نہ اکیلے پن کا احساس بلکہ ہر قدم پر ثبات و استقلال کا قلعہ تعمیر کرتے جا رہے تھے اور نقوشِ پاکِ ہر تیور پکار کر کہہ رہا تھا ع

میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر

لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

یہ آپ کی داعیائے قوت، قائدانہ عظمت و شوکت اور پاکیزہ قیادت کا ہی ثمرہ ہے کہ



آج دلوں کی فہمیل پر عظمت نبوت کے پرچم لہرا رہے ہیں، افکار و نظریات کے صحرا میں محبت رسول کے گلاب مسکرا رہے ہیں، خانقاہوں کی پاکیزگی، دارالافتاء کا تقدس اور دانش کدوں کی شوکتیں محفوظ ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے انہیں احسانات کو دیکھ کر پاسان ملت خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں:

اے وقت کے دانشور! غور کرو! امام احمد رضا کا ایک ایسا وجود مسعود جو تن تنہا لاکھوں پر بھاری بھر کم تھا انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے اگر زبان و قلم کا پورا سرمایہ اکٹھا کر دیا جائے تو اس کی زندگی کے چند لحظات کا شکریہ ادا کرنے کے لئے نا کافی ہوگا۔ عقل حیران ہے کہ زبان و قلم کے لئے نیاز مند یوں کی بھیک کہاں سے مانگی جائے اور کس خزانہ عامرہ سے کوہر آبدار چن چن کر ان کے قدموں پر پنچاؤر کئے جائیں جس سے امام احمد رضا جیسی قد آور شخصیت کی دینی و قلمی خدمات کا حق ادا کیا جاسکے۔ (دیوبندی خانہ تلافی، صفحہ ۱۲)

یہ اس فاضل کا تاثر ہے جس کے قلمی اور لسانی خدمات کی ضیا پاشیوں سے علاقے کا علاقہ روشن ہے، مگر براہو عصبیت کا جو علم و ادب سے کورے اور بالکل تہی دست ہیں وہ اس آفتاب فضل و کمال سے آنکھیں ملانے چلے ہیں، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ امام احمد رضا قدس سرہ کی خدمات کو سراہتے ان کی بارگاہ عبقری میں سجود نیاز لٹاتے، ان کے قلمی سرمایہ سے دلوں کی تجوری کو بھرتے، ان کے علم و شعور کے گل و لالہ سے قلب و نظر کو تازگی بخشتے ان کی پرکشش شخصیت کے جلوؤں سے دل و نگاہ کی وادی سجاتے اور اسلامی نظریات کو پیغام رضا کی شکل میں عام و نام کرتے لیکن یہ تاریخ کے ساتھ کتنا بھیا نک مذاق ہے کہ عمل کی تطہیر، فکر کی تقدیس اور عشق مصطفیٰ کی تفسیر میں جس کی حیات کا لمحہ لمحہ مصروف ہو، عمر بھر جس نے سماج میں جنم لینے والی برائیوں کے خلاف جہاد بالقلم سے کام لیا ہو اور جس کے قلم کی بوند بوند خیر و صلاح اور نجات و فلاح کا امیر کرم بن کر دلوں کی بنجر زمین پر برستی رہی اور سیرابی کے بعد

قلب و جگر کی کشت ویراں پر اتباع شریعت، حب رسالت اور رب کی خشیت کے نہ جانے کتنے شاداب پھول مسکرانے لگے اور آج اسی پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ بدعتی فرقہ کا بانی تھا مگر کوئی درد مند دل بتائے کہ اگر شرک کی مسموم فضا میں تو حید کا چراغ جلا نا، تو بین نبوت کے پر آشوب ماحول میں محبت رسول کی شمعیں روشن کرنا اور بدعات کی آندھی میں اولیاء عظام کی عظمتوں کی قدیلیں فروزاں کرنا یہی بدعت ہے تو پھر ہم ان کی علمی مفلسی، ذہنی قلاشی اور یتیم العقلی پر کوئی ماتم نہیں کرتے۔

کہتے ہیں کہ تاریخ حقیقت کا ایک بے غبار آئینہ ہوا کرتی ہے جو گردش ایام کا اثر قبول کئے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اس نادرو روزگار شخصیت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا مخالفین نے جس قدر حقائق پر پردے ڈالے، الزامات کا نشانہ بنانا چاہا اور پروقا رذات کو مجروح کرنے کی جتنی سازشیں رچی گئیں حقیقتیں طشت از بام ہوتی چلی گئیں، افکار کی خوشبو پھیلتی رہی، تا بندہ خیالات کی کرنوں سے دلوں کے آفاق جگمگانے لگے اور آج اس عالمی شخصیت پر تحقیق و ریسرچ کرنے والے اسکالرز اور محققین حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہیں جس موضوع پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھتے ہیں، تلاش و جستجو اور لوح و قلم کی ساری پونجی لٹا دینے کے بعد انہیں یہی احساس ہوتا ہے کہ فضل و کمال، علم و فن اور فکر و دانائی کے اس بحر نیکراں کا نہ کوئی پاٹ ہے نہ دھارا اور پھر انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ایک پیکر میں علم و شعور کی اس قدر سمائی یہ کسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ تائید ربانی اور فیضان الہی کا نتیجہ ہے۔

ایک داعی اس فلسفہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جہاں سے خیر و شر کے چشمے ایلٹے ہیں وہ انسان کا دل ہے اگر معاصی کے جراثیم سے دل پاک و صاف ہو گیا تو دوسرے اعضاء کو سنوارنا بہت آسان ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ قلب کی پاکیزگی پر زیادہ زور دیتے ہیں، آئیے اس پرسوز مصلح کی آواز کو آپ بھی کان سے لگا کر سنئے:

قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذ اللہ جب معاصی اور کثرت بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے اب اس میں حق

کو دیکھنے سمجھنے اور غور کرنے کی قابلیت نہیں رہ جاتی مگر ابھی حق سننے کی

استعداد باقی رہتی ہے۔ (ملفوظ شریف)

مندرجہ بالا تحریر کو پڑھنے کے بعد اس مخلص داعی کے اضطراب اور درد و کسک کو آپ محسوس کیجئے، کرب کا یہی وہ داعیہ تھا جو امام احمد قدس سرہ کو عمر بھر قلمی جہاد کرنے پر مجبور کرنا رہا کہ ایک سچے عاشق رسول، پرسوز قائد اور مذہبی رہنما کی نگاہ میں ہر لمحہ اسلامی احکام شرعی اصول قرآنی تعلیمات اور نبوی ارشادات و فرمودات کے حسین جلوے ہوتے ہیں جس کے اجالے میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔

”امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ“ کے حوالے سے ایک مختصر رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تعصب و تنگ نظری کی سطح سے اوپر اٹھ کر اس کا مطالعہ کیجئے اور قبول حق کی کوئی ہلکی چنگاری بھی ذہن و فکر کے کسی گوشے میں سلگ رہی ہو تو انصاف و دیانت کا خون کئے بغیر جواب دیجئے کہ امام احمد رضا قدس سرہ نے بدعات اور غیر شرعی رسومات کو فروغ دیا ہے یا اس کے خلاف جنگ لڑی ہے۔

قاطع نجد بیت حضرت علامہ مفتی محمد امان الرب صاحب، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نجم قادری صاحب، حضرت علامہ مفتی ایاز احمد مصباحی، حضرت علامہ مفتی منظور احمد مصباحی، حضرت علامہ محمد عیسیٰ رضوی مصباحی، حضرت مولانا رحمت اللہ صدیقی ان اہم شخصیات کی نیک تمنائیں اور پُر خلوص دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جب بھی کٹھن لمحات آتے ہیں تو مذکورہ حضرات ہماری دستگیری فرماتے ہیں۔ رب کائنات سب کو دارین میں عافیت عطا فرمائے۔ آمین

محمد قمر الزمان مصباحی مظفر پوری

خادم جامعہ قادریہ کوئٹہ، پونہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## تقدیم

کیا حال ہوتا کشتی ملت کا اگر امام احمد رضا نے بروقت اس کی پاسبانی نہ فرمائی ہوتی، کیا حال ہوتا عقیدہ و عقیدت کے گل و غنچہ کا اگر بدعات کی بادِ سموم کے سامنے آپ نسیم سحری نہ بن گئے ہوتے، اور کیا حال ہوتا ایمان و عمل کے درّ بے بہا کا اگر لٹیروں کے ظاہری و خفی حملے سے آپ نے لوگوں کو متنبہ نہ کیا ہوتا، اگر میں یہ کہوں کہ بالکل حق بجانب ہو گا کہ دین و ضروریات دین پر چوکھی حملے ہو رہے تھے تنہا امام احمد رضا چھپن علوم و فنون کے خزانہ و اسلمہ سے لیس ہو کر ان تمام طوفانِ جفا کے سامنے سدّ سکندری بنے ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عہد رضا میں علم و فکر کی بزمِ سوئی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ خانقاہیں حق، ہو کی صدائے لاہوتی سے خالی تھی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسلام کے جیالے اور جاٹا فرزندوں سے اسلام کی کوئی غیر آبا تھی، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام و ایمان کے گلشن کو تاراج کرنے کی جب صیہونی اسکیمیں اپنے شباب پر تھیں، عقیدہ و عقیدت کے خزانے پر جب شب خون مارے جا رہے تھے، عمل کے نام پر ایمان جب لوٹا جا رہا تھا تو اس کالی رات اور گھنگھور فضا میں وہ کون تھا جس نے جان جو کھم میں ڈال کر اور سر ہتھیلی پر لے کر وقت کی طاغوتی طاقتوں کو لکا رتے ہوئے کہا تھا۔

ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں  
برصغیر کی پوری ۱۹ ویں صدی چھان ڈالنے صرف اور صرف ایک نوری چہرہ نظر آتا ہے جسے سب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں۔ ہاں اہل علم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، خانقاہوں نے آپ کی حمایت کی ہے، سجادہ نشینوں نے تائید کے پھول برسائے ہیں، اسلام کے جیالے فرزندوں نے حوصلوں سے آپ کا دامن بھرا ہے مگر ہر محاذ پر جو مقدمہ الجیش کا



تاج زریں سجائے کبھی قلب لشکر، کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ پر جھپٹ جھپٹ کر وار کر رہا تھا وہ صرف بریلی کا تاجدار ہے۔ آپ کی زندگی کی سب سے عظیم خوبی جو آپ کے معاصرین پر آپ کو شرف و ممتاز کرتی ہے وہ یہی آپ کی جوانمردی و حق کوئی و بیباکی ہے۔

آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ شمشیر شریعت کی زد پر پڑنے والا کون ہے بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ عقیدہ و عمل میں بدعات و خرافات کا حامل کون ہے، اپنا ہویا بیگانہ اسی نقطہ نظر سے آپ نے سب کی خبر لی ہے اور حق یہ ہے کہ خوب لی ہے، ہم تو ان کی نگارشات و ملفوظات میں دیکھتے ہیں کہ جنہیں اپنی علمی حذاقت و ممارست پر ناز تھا، ارد گرد تلامذہ کا جم غفیر تھا، حلقہ ارادت و عقیدت بھی وسیع تھا لیکن خلاف شرع عمل و حرکت پر حضرت رضا بریلوی نے ان کی پرواہ نہیں کی، ادب سے ٹوکا، محبت سے متنبہ کیا، پیار اور نرمی سے سمجھایا، مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ شریعت مطہرہ کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، کوئی خانقاہ اگر بدعات و منکرات میں پھنس گئی ہے تو آپ نے اسے بھی ہدایت کی، عقیدت میں اگر کہیں غلو اور فکر و عمل میں کجی پائی جا رہی ہے تو وہاں بھی خبردار کیا، روش حیات اگر غلط ڈگر پر چل پڑی ہے تو آپ وہاں بھی چراغ حق و ہدایت لئے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی شومی قسمت سے تنقیص الوہیت اور توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے تو پھر آپ کا ہر وار رضا کے نیزے کی مار کا منظر پیش کرنا نظر آتا ہے۔ اس وقت آپ کا قلم، قلم نہیں برقی خاٹف نظر آتا ہے۔ غرض کہ امام احمد رضا صرف عمل کے داعی و مصلح نہیں بلکہ عقیدہ و عمل دونوں کے آپ محسن و مصلح نظر آتے ہیں، وہ بھی کوئی اصلاحی تحریک ہے کہ عمل کا جسم ظاہری زینت و سنگھار سے آراستہ کر دیا جائے اور اس میں ایمان کی روح نہ پھونکی جائے۔ امام احمد رضا اس نصب العین سے بخوبی واقف تھے انہوں نے جسم و جان دونوں کی آراستگی و مشاطگی کا فریضہ انجام دیا ہے، لہذا میرا خیال ہے کہ جب بھی امام احمد رضا کی نسبت سے اصلاح معاشرہ کی بات کی جائے تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہئے۔ معاشرہ کی اصلاح صرف عمل سے نہ کبھی

ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے اور نہ یہ اسلامی تصور ہے۔ ایک پاکیزہ، صالح اور با مقصد معاشرہ کی تشکیل کے لئے ضروری ہے اس کے سنگ بنیاد میں ہی ایمان و عقیدہ کی روح رچا بسادی جائے پھر عمل کی دیوار چنی جائے، اسلام صرف عمل کا نام نہیں بلکہ ایمان و عمل دونوں کے حسین مجموعہ کا نام ہے۔

زیر نظر کتاب عزیز گرامی مولانا محمد قمر الزمان مصباحی کے زرنگار قلم کا حسین شاہکار ہے، بس پڑھتے جائیے جھومتے جائیے۔ عزیز موصوف نے مختصر اوراق پر جامع اور بسیط مضامین کو سمیٹنے کی بڑی محمود کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کا انہیں دارین میں صلہ و ثمرہ عطا فرمائے۔ (آئین) تاہم عقیدہ کی بحث کو شاید انہوں نے قلت صفحات کی شکوہ منجی کے پیش نظر چھیڑنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس تعلق سے دو چار کوششیں ہدیہ ناظرین ہیں تاکہ قاری کو کسی جہت سے کتاب میں تشنگی کا احساس نہ ہو۔

(۱) دین سے دوری اور شریعت سے بے خبری نے لوگوں کو اس نتیجے پر پہنچا دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول ﷺ کے تعلق سے بھی آج کا انسان بڑا بے باک ہو گیا ہے یہاں تک کہ جسارت جا پہنچی ہے کہ اگر شریعت کا ضابطہ سمجھایا جائے تو بعض نا عاقبت اندیش لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ”ہم خدا اور رسول کو نہیں جانتے“ ایسا ہی سوال جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ہوا تھا تو آپ کے قلم کا تیور دیکھئے: ”وہ لفظ جو اس نے کہا کہ ہم خدا اور رسول کو نہیں جانتے یہ صریح کلمہ کفر ہے۔ والعیاذ باللہ اس شخص پر فرض ہے کہ تو بہ کرے اور از سر نو مسلمان ہو اور اگر عورت رکھتا ہے تو نئے سرے سے نکاح چاہئے“۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد دہم)

(۲) ان کی غیرت عشق اپنے خدا اور رسول ﷺ کی شان میں ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی گریزاں تھی جو دشمنان خدا و رسول ﷺ نے استعمال کیا ہو اور وہ ان کا تکیہ کلام بن چکا ہو، لفظ صاحب کے تعلق سے آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: ”جائز ہے حدیث میں ہے:

اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في المال و



## الاصول و الولد

اور سرور کائنات ﷺ کے لئے تو قرآن عظیم میں صاحب فرمایا گیا:

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾

لیکن اللہ صاحب کہنا اسماعیل دہلوی کا محاورہ ہے اور حضور ﷺ یقیناً ہمارے صاحب ہیں نام پاک کے ساتھ صاحب کہنا آریہ و پادریوں کا محاورہ ہے اس لئے نہ چاہئے۔ (اللفظ، سوم)

(۳) آج کل جاہل صوفیوں کا جیسے ہیضہ آیا ہوا ہے، نیلا پیلا رنگ چڑھالیا بس وہ قید و بند شریعت سے آزاد ہو گئیہ جو جی میں آیا کیا جو منہ میں آیا بک دیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ”عشق“ کا استعمال دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ علم تو ہے نہیں کہ کبھی اس کے لغوی و اصطلاحی معنی کی طرف غور کرتے اور نہ علماء کی قربت و رفاقت ہی ہے کہ ان کی اصلاح ہوتی، اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور ﷺ کو اس کا معشوق کہنے کے تعلق سے جب امام احمد رضا سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ”نا جائز ہے کہ معنی عشق اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے ایسا لفظ بے درود ثابت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولنا قطعی ممنوع“۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد دہم)

(۴) بد قسمتی سے آج کچھ لوگ حضور عالم ماکان و مایکون ﷺ کے علم پاک میں بھی قیل و قال سے نہیں چوکتے حالانکہ علمائے اہل سنت نے خاص اس عنوان پر علمی تحقیقات کے دریا بہا دیئے ہیں، جب علمائے اہل سنت کی وزنی دلیلیں کسی طرح نہیں اٹھتیں تو یہ بے نکاح الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ علم مصطفیٰ اور علم خدا کو مساوی قرار دیتے ہیں، اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا موقف کیا ہے امام اہلسنت کی زبانی سنئے، فرماتے ہیں: ”علم ذاتی اللہ عز و جل سے خاص ہے، اس کے غیر کے لئے محال ہے جو اس میں کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر غیر خدا کے لئے مانے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔“ (خالص الاعتقاد)

دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”علم الہی ذاتی ہے اور علم خلق عطائی، وہ واجب یہ ممکن، یہ قدیم یہ حادث، وہ مخلوق یہ مخلوق، وہ مقدور یہ مقدور، وہ ضروری البقاء یہ جائز الفناء، وہ

ممتنع التغير یہ ممکن التبدل۔“ (انباء المصطفیٰ)

علم خدا اور علم مصطفیٰ میں برابری کے تصورات و الزامات کے تار و پود بکھیرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”برابری تو درکنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرہ کے کروڑوں کو کروڑ سمندر سے ہے کہ یہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ اور وہ غیر متناہی، متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔“ (اللفظ، اول)

(۵) اسلام اور نظریات اسلام کی روح اس وقت مجروح ہو جاتی ہے جب کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ ”کسی کو برا نہیں کہنا چاہئے“ کیا ظلم ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول ﷺ اور پیارے دین اور ضروریات دین کے بارے میں کچھ بھی لکھے اور بکے ”معاذ اللہ“ اس مذموم نظریے سے آج دین کا جتنا نقصان ہو رہا ہے شاید ہی کسی دور میں ہوا ہو، اسی ظالم نظریے نے ظالم و مظلوم، حق و باطل، نور و ظلمت کو آج ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا ہے، معاشرہ ایسا مخلوط ہو گیا ہے کہ اپنے اور بیگانے، دوست اور دشمن، وفادار و غدار کی پہچان مشکل ہو گئی ہے، اگر یہ چھوٹ دے دی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ایک نیا اسلام گڑھ کر رکھ دیں گے، اسلام مذہب حق ہے اور حق کو حق، باطل کو باطل کہنے کا داعی۔ اسلام کی پالیسی بالکل صاف اور روشن ہے اس میں کسی طرح تاریکی اور ژولیدگی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بکے بے دین، بدعتی ہو جائیں اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ اور ہے اور وہ لوگ جو ابھی شک و ریب میں مبتلا ہیں، مذہب ہیں ان کے تعلق سے اسلام کا نظریہ اور ہے، جو لوگ اپنے قول و فعل سے جس خانے میں چلے جائیں ان کی اصلاح اسی علامت اور زاویے سے ہوگی، ان کے تعلق سے شریعت کا فیصلہ امام احمد رضا کے قلم سے یہ ہے: ”رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کرو۔

یہ انہیں حکم دیتا ہے جن کی نسبت فرماتا ہے:

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

تو بے شک بڑے خلق پر ہے۔ (المفلووظ)

اور جو لوگ ابھی نیم پختہ ہوں، مذہب ہوں ان کے بارے میں شریعت کی سنجیدہ طبعی اور امام احمد رضا کی نرم گفتاری کا منظر ملاحظہ ہو: ”دیکھو نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں حاصل ہو سکتے، جن لوگوں کے عقائد مذہب ہوں ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ (المفلووظ)

آپ کا مطمح نظر ہمیشہ یہ رہا کہ حق کوئی دبیبا کی کا دامن نہ چھوٹے، اچھی اور سچی بات ہر کسی کو دو ٹوک بتائی جائے، چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ، آپ کی حیات کا ہر لمحہ کو ابھی دے رہا ہے کہ آپ نے اپنی پوری توانائی و جگر کاوی اور اولوالعزمی و بلند ہمتی سے خدا و مصطفیٰ کی خوشنودی کے لئے اس فریضہ کو انجام دیا ہے، اپنے منصب کا جتنا وقار آپ نے سمجھا اور بلند رکھا ہے آپ کے عہد زریں میں شاید ہی کسی نے رکھا ہو، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فنا کر کے بقا کا شیریں جام نوش فرمایا، دیکھئے کتنی پیاری التجا ہے جو انہوں نے کی ہے۔

کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود

## امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اور اصلاح معاشرہ

### ولادت با کرامت

امام احمد رضا کی ولادت ۱۰ شوال المکرم ۱۲۷۲ھ مطابق ۱۴ جون ۱۸۵۶ء روز شنبہ ظہر کے وقت شہر بریلی شریف، محلہ جسولی میں ہوئی، خود امام احمد رضا نے مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے اپنا سن و ولادت استخراج فرمایا:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی

طرف سے روح القدس کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی۔ (کنز الایمان)

آپ کا پیدائشی نام ”محمد“ ہے اور تاریخی نام ”المختار“ ہے، ۱۲۷۲ھ جد امجد مولانا رضا علی خاں علیہ الرحمہ (م ۱۲۸۳ھ/ ۱۸۶۶ء) نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا جس نام سے آپ مشہور ہیں بعد میں آپ نے اپنے اسم شریف کے ساتھ عبدالمصطفیٰ کا اضافہ فرمایا، چنانچہ اپنے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ

تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے

### خاندانی نجابت

آپ کا خاندان فضل و کرامت، امارت و سیادت اور علمی و فکری عبقریت میں شروع سے ہی یگانہ روزگار رہا، آپ کے والد گرامی امام المصطفیٰ مجاہد آزادی حضرت علامہ شاہ نقی علی خان علیہ الرحمہ صاحب تصانیف کثیرہ، بلند پایہ فقیہ اور نابغہ روزگار عالم دین تھے، حضرت علامہ شاہ رضا علی خاں قدس سرہ درویش کامل اور مرجع خلافت بزرگ تھے۔ حضرت



حافظ شاہ کاظم علی خاں رحمۃ اللہ علیہ فوج کے سپہ سالار اور ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ایسے آغوش علم و کرم، فضل و کمال اور گہوارہ شعور و ادب میں آپ کی تربیت ہوئی۔

## ذہانت و فطانت

آپ بچپن ہی سے اعلیٰ ذہن، بلند دماغ اور زبردست حافظہ کے مالک تھے، آپ خود تحریر فرماتے ہیں:

”میرے استاذ جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دو مرتبہ کتاب دیکھ کر بند کر دیتا جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا، روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے اک دن مجھ سے فرمانے لگے احمد میاں یہ کہو تم آدمی ہو یا جن مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔“

آپ نے چار سال کی عمر شریف میں ناظرہ قرآن عظیم مکمل فرمالیا، ۶ سال کی عمر میں عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر منبر پر جلوہ افروز ہو کر نہایت یلغ اور مؤثر خطاب فرمایا اور گیارہ سال کی عمر میں ”ہدایۃ الخو“ کی عربی شرح لکھی، یہ آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔

## فراغت

۱۳ برس ۱۰ ماہ ۵ دن کی عمر میں ۱۴ شعبان المعظم ۱۲۸۶ھ میں سند فراغت سے نوازے گئے۔

آپ تحریر فرماتے ہیں:

”وسط شعبان ۱۲۸۶ھ/۱۸۶۹ء میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اور اس وقت ۱۳ سال ۱۰ ماہ ۵ دن کا تھا اور اسی تاریخ سے مجھ پر نماز

فرض ہوئی اور میں احکام شرعیہ کی طرف متوجہ ہوا۔“

## قوت حافظہ

ایک مرتبہ آپ پہلی بھیت شریف تشریف لے گئے اور حضرت مولانا وصی احمد صاحب محدث سورتی علیہ الرحمہ کے مہمان ہوئے، اثنائے گفتگو میں ”عقود الدرہ فی تنقیح فتاویٰ الحامدیہ“ کا ذکر چل پڑا، حضرت محدث سورتی نے فرمایا کہ وہ کتاب میرے کتب خانے میں ہے اعلیٰ حضرت نے اس وقت تک اسے دیکھا نہیں تھا، فرمایا جاتے وقت میرے ساتھ کر دیجئے گا۔ حضرت محدث سورتی نے کتاب لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور یہ بھی فرمایا کہ ملاحظہ فرمانے کے بعد بھیج دیجئے گا، آپ کے یہاں بہت کتابیں ہیں اور میرے پاس تو کتنی کی چند کتابیں ہیں جن سے فتاویٰ دیا کرتا ہوں۔

اعلیٰ حضرت کو اسی دن آنا تھا مگر ایک جان نثار کی دعوت پر رکنا پڑا آپ نے رات میں ”عقود الدرہ“ کی دو ضخیم جلدوں کا مطالعہ فرمالیا، دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد بریلی کا قصد فرمایا، عقود الدرہ کو سامان میں رکھنے کے بجائے محدث صاحب کے یہاں واپس بھجوا دی۔ اس واقعہ کے بعد محدث صاحب تشریف لائے اور عرض کیا کہ میری اتنی گزارش پر کہ مطالعہ کے بعد میری کتاب واپس فرمادیں گے، آپ کو اتنا ملال ہوا کہ آپ کتاب ابھی واپس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل جانا ہوتا تو بریلی لے جاتا لیکن جب رک گیا تو شب میں اور صبح میں پوری کتاب دیکھ ڈالی، اب لے جانے کی ضرورت نہیں۔ محدث صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ کا دیکھ لینا کافی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تین سال تک جہاں کی عبارت چاہوں گا فتاویٰ میں لکھ دوں گا اور مضمون تو انشاء اللہ عمر بھر کے لئے محفوظ ہو گیا۔

## وسعت علمی

ایک مرتبہ شہر بریلی میں ۱۲ ربیع الاول شریف کے عظیم الشان جلسہ میں اعلیٰ حضرت

نے صرف بسم اللہ کے باء جارہ اور اسم اللہ پر مسلسل کئی گھنٹے ایسی تقریر فرمائی جس سے حضور علیہ السلام کے جوہ و نوال، جاہ و جلال اور حسن و کمال کے دریا امنڈنے لگے آپ نے انہیں دو لفظوں باء جارہ اور اسم اللہ خالص علمی روش پر فضائل رسول ﷺ کے متعلق ایسی باتیں بیان فرمائیں جس سے اہل علم کے بھی کان نا آشنا تھے۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ کے عرس میں بدایوں تشریف لے گئے اور آپ نے صرف سورۃ الضحیٰ پر صبح نو بجے سے ۱۲ بجے تک مسلسل تین گھنٹے تقریر فرمائی، یہ واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت کی تقریر خالص علمی تحقیقی مضامین پر مشتمل ہوتی تھی۔

پھر اسی مجلس میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ سورۃ الضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر ۸۰ جز تک لکھ کر چھوڑ دیا کہ تناوقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھوں۔

### فقہی عبقریت

جدید تحقیق کی روشنی میں آپ کو اکٹھ علوم و فنون پر کامل درک اور مملکت نامہ حاصل تھا، آپ کی فکری عبقریت، علمی وجاہت، فقہی بصیرت، طرز استدلال، قوت تحریر، استحضار ذہن، قلمی بانگین اور خدا داد شوکت و جلالت کو اپنے اور غیر سب نے تسلیم کیا ہے، ڈاکٹر اقبال لاہوری نے اپنا تاثر ان لفظوں میں پیش کیا ہے۔

”وہ بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے، فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ ور اور پاک و ہند کے کیسے نابغہ روزگار تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ بمشکل ملے گا، ان کے فتاویٰ ان کی ذہانت، فطانت، جودت طبع، کمال فقاہت اور علوم دینیہ میں تبحر علمی کے شاہد

عدل ہیں۔

مولوی عبدالحی لکھنوی نے یوں لکھا ہے:

یندر نظیرہ فی الاطلاع علی الفقہ الحنفی و جزئیاتہ  
یعنی، فقہ حنفی اور اس کے جزئیات میں جو ان کو عبور حاصل تھا اس کی  
نظیر شاید کہیں ملے۔

مولوی ابوالحسن علی میاں ندوی نے ان لفظوں میں اعتراف کیا ہے:  
”حرمین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی لکھے اور  
علماء حرمین نے بعض سوالات کئے تو ان کے جواب بھی تحریر کئے، متون  
فقہ اور اختلافی مسائل پر ان کی ہمہ گیر معلومات، سرعت تحریر اور  
ذہانت دیکھ کر سب کے سب حیران و ششدر رہ گئے۔“

### بیعت و ارادت

امام الفضلاء بدر الکملاء، قدوة العارفین، سید السالکین خاتم الاکابر حضرت سید شاہ  
آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو شرف بیعت حاصل ہے، بیعت ہونے کا  
واقعہ بھی بڑا انوکھا ہے، حضرت مولانا شاہ حسین رضا ابن استاذ زمن حضرت حسن رضا  
بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیرت اعلیٰ حضرت میں رقمطراز ہیں:

”ایک دن دوپہر کو اعلیٰ حضرت قبلہ روتے روتے سو گئے، خواب میں  
اپنے دادا جان حضرت مولانا شاہ رضا علی خاں صاحب علیہ الرحمہ کو  
دیکھا وہ تشریف لائے اور فرمایا وہ شخص عنقریب آنے والا ہے جو  
تمہارے اس درد کی دوا کرے گا چنانچہ اس واقعہ کے دوسرے یا  
تیسرے روز تاج الحول حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ  
تشریف لائے اور اپنے ساتھ مارہرہ شریف لے جا کر حضرت شاہ



آل رسول قدس سرہ سے مرید کرا دیا، حضرت خاتم الاکابر قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ تھے ”آئیے ہم تو کئی دن سے آپ کے انتظار میں تھے“ مرشد برحق کی بے انتہا نوازشوں کو دیکھ کر مریدوں کو حیرت بھی ہوئی تو حضرت اقدس خاتم الاکابر نے فرمایا یہ دونوں باپ بیٹے صاف دل لے کر آئے تھے بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی جو نسبت حاصل ہونے کے ساتھ ہی حاصل ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے مولانا احمد رضا خاں صاحب کی بیعت پر فخر ہے۔“

حضرت مولانا عنایت محمد غوری رضوی فیروز پوری اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے

ہیں:

اعلیٰ حضرت فاضل ہندوستان خلد مکان کے پیر و مرشد حضرت امام العارفین مولانا سید شاہ آل رسول قادری مارہروی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اگر خدائے بزرگ و برتر مجھ سے فرمائے گا کہ میرے واسطے تو کیا لایا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔

## تجدیدی کارنامے

آپ نے اپنی شوکت علمی اور طہارت فکری کے ذریعے احیائے دین، اشاعت اسلام، ابلاغ حق اور دعوت الی اللہ کا جو زریں کارنامہ انجام دیا ہے وہ یقیناً بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے تجدیدی کارنامے سے متاثر ہو کر آپ کے علمی عبقریت کے آستانے پر سجدہ دنیا زلالتے ہوئے محافظ کتب الحرم شیخ اسماعیل خلیل کی علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں:

”بل اقول لو قيل في حقّه انه مجدد هذا القرن لكان حق و صدقاً“

ترجمہ: ”بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو بے شک یہ بات سچ اور صحیح ہے۔“

الغرض عرب و عجم کا گوشہ گوشہ آپ کی دینی خدمات اور تجدیدی کارناموں کا معترف ہے اور الحمد للہ آج بھی آپ کے علم و دراست کی ضیاء باری، فکر و تحقیق کی پاکیزگی اور طہنۂ فضل و کمال کی چاندنی ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے۔

سرور کونین محمد عربی ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

إِنَّ اللَّهَ يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

یعنی، پروردگار عالم ہر سو سال کے بعد امت کے لئے مجدد مبعوث فرماتا ہے جو اس مقدس دین کو زندہ کرتا ہے۔

فرسودہ مراسم اور بدعتوں کی آلودگیوں کو ختم کر کے شریعت مقدسہ کے پاکیزہ اصول سے امت کو روشناس کرانا ہے اور خود اس کے نقوش گم گشتگانِ راہ کے لئے خط مستقیم اور جادۂ حیات بن جاتے ہیں۔

اس حدیث پاک کی روشنی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آپ پر واضح ہو جائے گی کہ آپ کے وجود مسعود کا لمحہ لمحہ اس حدیث مبارکہ کا کامل ترجمان ہے۔ فکر و عمل سے لے کر زبان و قلم تک زندگی کی ہر ادا اور حیات کی ہر روش اپنے دامن میں اتباع شریعت کی چاشنی، احیاء سنت کی دلکشی، تجدید دین کی نازگی اور عشق رسالت پناہی کی درباری کے نہ جانے کتنے ناز و انداز لئے ہوئے ہے۔

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جا است

میں نے آپ سے سامنے امام احمد رضا قدس سرہ کی حیات کا اجمالی خاکہ پیش کر دیا ہے تاکہ آپ کی عبقریت و آفاقیت کا صحیح اندازہ ہو سکے اور وہ لوگ جو آپ کی عظمت و

خدا داد شوکت کے منکر ہیں انہیں حق و صداقت کی راہ نظر آ جائے۔

اصلاح معاشرہ کے تعلق سے امام احمد رضا قدس سرہ نے کتنا انقلابی اور کلیدی رول ادا کیا ہے اسے ان کی تحریر کے آئینے میں پڑھنے سے پہلے آئیے ان کی سیرت و کردار کے بہتے ہوئے اس صاف و شفاف چشمہ کا سراغ لگائیں جس کے کنارے بیٹھ کر اگر کسی نے ایک جرد بھی پی لیا تو اس کی ایمانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا اور جس کے نوکِ قلم سے نکل کر صفحہ قرطاس پر مچلنے والا حرفِ فکر و نظریات اور اعتقاد و خیالات کے اندر کیف و سرمستی کی ایسی ضیائیں بکھیر گیا جس کے اجالے میں ہر حق پسند، منصف مزاج اور گم گشتہ راہ کے لئے سفر کرنا نہایت آسان ہو گیا۔

ان کا سایہ اک تجلی، ان کا نقش پا چراغ

وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی

آج بے پردگی اور حیاء سوزی کا بھیا نک اور زہریلا اثر جس تیزی کے ساتھ مسلم سماج کے اندر سرایت کر رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے، یہ کتنا زبردست المیہ ہے کہ مسلم خواتین شریعت اور قرآنی ارشادات سے دور ہو کر آزادانہ طرزِ حیات اور غیر اسلامی روش کو اپنی زندگی میں داخل کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ہوٹلوں، پارکوں، اور تفریح گاہوں سے لے کر مقدس مقامات تک ایسی غیرت فروشی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی شرمندہ ہے۔ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں:

غیبتہ میں ہے یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب مزار کی طرف سے۔ جس وقت گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی

اجازت نہیں وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیم قریب بواجبات

ہے اور قرآن نے اسے مغفرت ذنوب کا تریاق بتایا ہے۔

اولیاء کرام کے مقدس آستانے جہاں ہر لمحہ رحمت الہی کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور ہر پل سعادت و برکات کی خیرات تقسیم ہوتی ہے جب ایسے با عظمت اور پاکیزہ مقامات پر عورتوں کی حاضری موجب لعنت ہے تو وہ جگہیں جو شیطانوں، اوباشوں اور شر پسندوں کی آماجگاہ ہوں وہاں عورتوں کا بے حجابانہ گھومنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ مگر براہِ نو تہذیب اور فیشن پرستی کا کہ آج ہر خاص و عام اس مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ کاش کہ لوگ امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریرات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے اور ہر اس فعل سے اپنے آپ کو روکتے جو خدا و رسول کی ناراضگی اور غضب کا سبب ہے نیز مخالفین کی جماعت جو الزام تراشی کرتی ہے کہ امام احمد رضا نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت دی ہے اسے تعصب و تنگ نظری، بہتان تراشی اور افتراء پر دازی کی سطح سے اوپر اٹھ کر امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی پُر نور تحریر کا مطالعہ کرنا چاہئے ورنہ پھر داؤد محشر کے حضور جواب دینے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

آج کل بے شرع پیروں کا سیلاب آ گیا ہے جسے دیکھو کاکل (زلفیں) بڑھائے، انگلیوں میں انگوٹھیاں سجائے، رنگین کپڑے پہنے، پیری مریدی کی دکان لگائے بیٹھا ہے۔ یہ وقت کی کتنی بڑی ٹریجڈی (TRAGEDY) ہے کہ بیعت و ارادت اور رشد و ہدایت نیا بت رسالت کا اہم باب ہے مگر کچھ ناعاقبت اندیش اور آن پڑھ پیروں نے اس پاکیزہ رشتہ کو بھی کمائی کا بہترین ذریعہ اور حصول زر کا اچھا وسیلہ بنا رکھا ہے نہ صوم و صلوٰۃ کی پابندی، نہ احکام شرعیہ پر عمل، نہ اسلامی اصول سے واقفیت اور نہ ہی علم و آگہی سے کوئی تعلق، اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھئے تو بڑی بے باکی اور جرات مندی سے جواب دیتے ہیں کہ شریعت الگ شے ہے اور طریقت الگ۔ امام احمد رضا ایسے پیروں کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

عمر و کا قول کہ طریقت نام ہے وصول الی اللہ کا، محض جنون و جہالت



ہے دو حرف پڑھا ہوا جانتا ہے کہ طریق طریقہ طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پہنچ جانے کو تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے، اب اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو شہادت قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی بلکہ شیطان تک۔ جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن عظیم باطل و مردود فرما چکا ہے۔

دوسری جگہ یوں تحریر فرماتے ہیں:

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں اصلاً باہم کوئی تخالف نہیں اس کا مدعی اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے اور سمجھ کر کہے تو گمراہ بد دین۔ شریعت حضور اقدس سید عالم ﷺ کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال، حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ﷺ۔

پھر تحریر فرماتے ہیں:

بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک پل ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کہ راہ جس قدر باریک اسی قدر ہادی کی زیادہ حاجت و لہذا حدیث میں آیا حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: المتعبد بغیر فقہ كالحمار فی الطاحون بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والا ایسا ہے جیسا چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں۔

ان تحریروں کو حقائق کے اجالے میں پڑھئے اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ پیر جو شریعت کو بالائے طاق رکھ کر صرف طریقت کی بات کرتے ہیں وہ اسلام اور شرع کی نظیر میں سخت مجرم ہیں یا نہیں لہذا آپ ایسے ہی پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے جن کے دامن

پُر بہار سے اسلامی اور شرعی اصول و ضوابط کی ساری برکتیں وابستہ ہوں۔

آج کے اس پُرفتن ماحول میں کچھ ایسے پیر بھی ملیں گے جو اپنی مریدہ سے مصافحہ کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤں کا بوسہ دلاتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کہ غیر شرعی افعال کر گزرنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتی۔

شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بیعت رضوان کے موقع پر حضور سید عالم نور مجسم ﷺ جب مردوں کی بیعت سے فرصت کے بعد مکان کے اندر تشریف لے گئے اسی وقت عورتیں بیعت کے لئے حاضر ہوئیں تو حضور سید عالم ﷺ نے توقف فرمایا تو فوراً طائر سدرہ یہ آیت پاک لے کر حاضر خدمت ہوئے، آیت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بَبْهَتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان (یعنی موضع ولادت میں) اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (ترجمہ رضویہ)

حضور رحمت عالم ﷺ نے اس آیت کے بموجب عورتوں کو بھی بیعت کر لیا حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ سے عورتوں کی بیعت صرف کلام سے ہوئی اور حضور کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے لمس نہ ہوا۔..... (۱۸) یہ حدیث اُن پڑھ اور غیر شرعی پیروں کے لئے تازیانہ عبرت بھی ہے اور چراغِ راہ بھی جو اپنی مریداؤں سے ہاتھ پاؤں کا بوسہ دلواتے ہیں، اب امام احمد رضا قدس سرہ کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے:

بے شک غیر محرم سے پردہ فرض ہے جس کا اللہ و رسول نے حکم دیا (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک پیر مریدہ کا محرم نہیں ہو جاتا نبی ﷺ سے بڑھ کر امت کا پیر کون ہوگا یقیناً وہ ابوالروح ہے اگر پیر ہو جانے سے آدمی محرم ہو جایا کرتا تو چاہئے تھا کہ نبی سے اس کی امت سے کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

آج اکثر اولیاء کرام کے مزارات پر قرآن و حدیث اور اسلام و سنت کے فیضان اور باطنی عرفان سے محروم سجادگانِ مزارات کے ساتھ محفلِ سماع کا انعقاد اور قوالی کی مجلس گرم کرتے ہیں ڈھول باجوں کی آواز پر خود بھی تھرکتے ہیں اور مریدوں کو بھی خوب ٹریننگ دیتے ہیں اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ عرس کے ایام میں مرد و عورت کا شاندار مقابلہ ہونے لگا ہے نعوذ باللہ منہ، ان سجادگان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس فعلِ شنیع سے جہاں اسلام کا تقدس اور شریعت کا وقار مجروح ہو رہا ہے وہیں صاحبِ مزار کی روح اضطراب کی کروٹیں لے رہی ہے، امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

مزار میر جنہیں مٹانے کے لئے حضور پر نور سید عالم ﷺ تشریف لائے تھے (کما فی الحدیث) مطلقاً حرام ہے۔

ایسی قوالی حرام ہے حاضرین سب گنہگار ہیں اور ان سب کا گناہ اس عرس کرنے والے اور قوالوں پر ہے اور قوالوں کا بھی گناہ عرس کرنے

والے پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ہاتھ قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے یا اس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو نہیں بلکہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے برابر جدا اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ اور قوالوں کے جدا اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ۔

مزار میر یعنی آلاتِ لہو و لعب پر وجہ واجب بلاشبہ حرام ہیں جن کی حرمت اولیاء و علماء دونوں فریق ہذا کے کلماتِ عالیہ میں مصرح ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعد اصرارِ کبیرہ ہے اور حضرت علیہ سادات بہشت برائے سلسلہ عالیہ چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارضاء عنہما کی طرف نسبت محض باطل و افتراء ہے۔

حضرت سید فخر الدین رازی قدس سرہ کہ حضور سیدنا محبوب الہی سلطان الاولیاء نظام الحق والدنیا والدین محمد احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اجلہ خلفاء سے ہیں جنہوں نے خاص عہد کرامت مہد حضور میں بلکہ خود بحکم والا مسئلہ سماع میں رسالہ ”کشف القناع عن اصول السماع“ تالیف فرمایا اپنے اسی رسالہ میں فرماتے ہیں:

”سمع بعض المغلوبین السماع مع المزامیر فی غلبات الشوق و اما سماع مشائخنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم فبری عن هذه التهمة و هو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من کمال صنعته اللہ تعالیٰ“

یعنی، بعض مغلوب الحال لوگوں نے اپنے غلبہ شوق و حال میں سماع



مع مزا میر سنا اور ہمارے پیران طریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سننا اس تہمت سے بری ہے وہ تو صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی جل و علا سے خبر دیتے ہیں۔

فوائد الفوائد شریف میں تصریح فرمائی ہے کہ ”مزا میر حرام است“ حضور ممدوح کے یہ ارشادات عالیہ ہمارے لئے سند کافی اور ان اہل ہوا و ہوس مدعیان چشت پر حجت دانی۔

اب آئیے ذرا مجلس سماع میں قوالی سے متعلق سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشوا عطاءئے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے محبوب مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا ایمان افروز واقعہ سماع فرمائیے:

حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر مجلس سماع میں قوالی ہو رہی تھی حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے پیران سلسلہ میں ہیں باہر ہی مجلس سماع میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب صالحین سے آپ کے پاس آئے اور گزارش کی مجلس میں تشریف لے چلئے، حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جاننے والے ہو مواجہ اقدس میں حاضر ہوا اگر حضرت راضی ہوں میں ابھی چلتا ہوں، انہوں نے مزار اقدس پر مراقبہ کیا دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں اور قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ”ایں بد بختاں وقت مارا پریشان کردہ اند“ واپس آئے اور قبل اس کے عرض کریں فرمایا آپ نے دیکھا۔

خدا را انصاف سے بتائیے کہ محفل سماع میں قوالوں سے اس قدر حضرت نے اپنی ناراضگی اور پریشانی کا اظہار فرمایا تو پھر سماع مع مزا میر سے ان پاک ہستیوں کی روح کس

قدر بے چین ہوں گی لیکن براہوان ہوا و ہوس کے پجاریوں کا کہ اس قدر دلائل و شواہد کے باوجود سماع مزا میر کے جواز پر قائم رہنا اور اکابر سلسلہ چشت کی طرف ان قبیح حرکتوں کی نسبت کر کے خالص بہتان اور ظلمات نفس کو فروغ ہی دینا تو ہے۔

مسلمان اسلامی روایات سے ہٹ کر شادیوں میں بڑے فخر کے ساتھ ناچ گانے، ڈھول باجے، آتش بازی اور پٹاخے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس بے ہودہ رسم میں ہر خاص و عام مبتلا ہے کل تک جس چیز کا تصور کرنا بھی حرام تھا آج ان لغو رسموں کو بجالانے میں مسلمان اپنی شان و عظمت سمجھتا ہے مگر اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ ان ناجائز رسموں کے پیچھے عیسائیت و یہودیت کی پوری مشنری لگی ہوئی ہے، کس طرح ان کے سینے سے جذبہ حب رسول، مذہبی وقار، اسلامی روح اور شرعی رنگ و آہنگ کو فنا کر دیا جائے اور انہیں نئی روشنی اور مغربی تہذیب کا دیوانہ بنا دیا جائے۔

آج شادیوں میں جو غیر اسلامی کاموں کے لئے روپے کو خرچ کیا جا رہا ہے اس سے مذہبی تقدس تو مجروح ہوتا ہی ہے لیکن دوسری طرف اس سے تصحیح مال اور اسراف سے مسلمانوں کی اقتصادی و معاشی زندگی میں جو بحران ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، کاش کہ! سنجیدہ اور دانشور طبقہ ٹھنڈے دل سے اس اہم مسئلے پر غور و خوض کر کے کوئی ٹھوس اور مثبت اقدام کرنا اور اسلام کی روشنی میں کوئی اہم اصول کی بنیاد رکھنا جس سے قوم مسلم کا وہ سرمایہ جو غلط راہوں پر خرچ ہو رہا ہے اس کی صحیح روک تھام ہو سکے، امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

یہ گانے باجے کہ ان بلاد میں معمول اور رائج ہیں بلاشبہ ممنوع و ناجائز ہیں، خصوصاً وہ ملعون و ناپاک رسم کہ بے تمیز احمق جاہلوں نے شیاطین ہنود ملائین بے بہود سے سیکھی، یعنی فحش گالیوں کے گیت کوانا اور مجلس کے حاضرین و حضرات کو لچھے دار سنا، سمدھیانہ کی عقیف پاکدا من عورتوں کو الفاظ زنا سے تعبیر کرنا کرانا، خصوصاً ان ملعون بے حیا رسم کا مجمع زمان میں ہونا، ان کا اس ناپاک فاحشہ حرکت پر ہنسنا، قہقہہ اڑانا،

اپنی کنواری لڑکیوں کو یہ سب کچھ سنا کر بدلجنا پڑا۔ بے حیا بے غیرت خبیث، بے حمیت مردوں کو مشہدین کو جائز رکھنا۔ کبھی برائے نام لوگوں کے دکھاوے کو جھوٹ سچ ایک آدھ بار جھڑک دینا مگر بند و بست قطعی نہ کرنا یہ شنیع گندی مردود رسم ہے جس پر صد ہا لغتیں اللہ عز و جل کی اترتی ہیں اس کے کرنے والے اس پر راضی ہونے والے اپنے یہاں اس کا کافی انسداد نہ کرنے والے سب فاجر و فاسق مرتکب کبار مستحق غضب جبار و عذاب مار ہیں۔ والعیاذ باللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے۔ آمین

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

جن شادیوں میں یہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں شریک نہ ہوں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برأت میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا حرام ہے کہ اس میں تضحیل مال، قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا۔ قال اللہ تعالیٰ

وَلَا تَبْسُرُوْا تَبْسُرُوْا اِنْ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانُ الشَّيْطٰنِيْنَ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فضول نہ اڑا بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ (کنز الایمان)

عوام الناس میں یہ تو ہم پرستی، غلط نظریات اور فاسد خیالات عام طور سے پائے جاتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید رہتے ہیں اور فلاں کے جسم پر فلاں بزرگ آئے ہیں اور ہر جمعرات کو اس درخت کے پاس جا کر شیرینی وغیرہ فاتحہ دلاتے ہیں، لوہان اگر بتی سلگاتے اور ہار پھول لٹکاتے ہیں، یعنی شہدائے کرام اور اولیاء اللہ کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں

تو وہ درختوں اور انسانی جسموں کو اپنی اپنی پناہ گاہ بنانے لگے ہیں۔ لاحول ولا قوۃ۔ شہدائے عظام اور اولیائے فحام کی وہ پاکیزہ جماعت ہے جس کی رفعت شان اور عظمت مکان کی شہادت قرآن پیش کر رہا ہے اور ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ان کی کھلی توہین اور گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یوں ہی عورتیں شادی کے موقع سے مسجدوں میں جا کر طاق بھرتی ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

”یہ سب واہیات، خرافات اور جاہلانہ حماقات و بطلالات ہے ان کا ازالہ لازم ہے۔“

یہ سب رسوم جہالت و حماقت و ممنوعات بے ہودہ ہیں مگر بت پرستی اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہاں گنہگار و مبتدع ہیں۔

لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ محرم الحرام اور صفر کے مہینے میں نکاح کرنا منع ہے اسی طرح ۳، ۱۳، ۲۳ اور ۸، ۱۸، ۲۸ کی تاریخوں اور پنج شنبہ (جمعرات) اور چہار شنبہ (بدھ) کے ایام میں شادیاں نہیں کرتے کیونکہ ان تاریخوں، مہینوں اور دنوں میں شادی مسرت کے بجائے کلفت کا پیام لاتی ہے، امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

نکاح کسی مہینے میں منع نہیں یہ غلط مشہور ہے۔

یہ سب باطل اور بے اصل ہے۔

آج کچھ لوگ اپنے گھروں میں پیر کی تصویر سجا کر رکھتے ہیں اور ہر روز اس پر ہار پھول پیش کرتے ہیں، حضور سید عالم ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

”لا تدخل الملائكة بیتاً فیہ کلب و صورة“

”فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتاب یا جاندار کی

تصویر ہو۔“

مگر عقیدت کے بہاؤ میں انسان ہر وہ کام کر بیٹھتا ہے جو شریعت کی نظر میں ناجائز و حرام اور نا پسندیدہ و مردود ہے، امام احمد رضا تحریر فرماتے ہیں:



حضور سید عالم ﷺ نے ذی روح کی تصویر بنانا بنوانا اعزاز اپنے پاس رکھنا سب حرام فرمایا اور اس پر سخت سخت وعیدیں ارشاد کیں، اور ان کے دور کرنے اور مٹانے کا حکم دیا، حدیث اس بارے میں حدیث اتر پر ہیں، یہاں چند مذکور ہوتی ہیں:

صحیحین و مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”كُلُّ مَصْصُورٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُورَةً نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ“

ہر مصور جنہم میں ہے اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی ایک مخلوق پیدا کرے گا کہ جو جنہم میں اسے عذاب کرے گی۔

انہیں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَصْصُورُونَ“

بے شک نہایت سخت عذاب روز قیامت تصویر بنانے والوں پر ہے۔

صحیحین و سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ“

بے شک یہ جو تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب کئے جائیں گے ان سے کہا جائے گا یہ صورتیں جو تم نے بنائی تھیں ان میں جان ڈالو۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین

صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نیز اسی میں حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اور مسند امام احمد میں بسند صحیح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کی:

إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُتُبٌ وَ صُورَةٌ

ہم ملائکہ رحمت اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتاب یا تصویر ہو۔

کعبہ میں جو تصویریں تھیں حضور اقدس ﷺ نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں مٹا دو، عمر رضی اللہ عنہ

اور دیگر صحابہ کرام چادریں اتار اتار کر انتہائی حکم اقدس میں سرگرم ہوئے، زمزم شریف سے ڈول کے ڈول بھر کر آتے اور کعبہ کو اندر باہر سے دھویا جاتا، کپڑے بھگو بھگو کر تصویریں مٹائی جاتیں یہاں تک

کہ وہ مشرکوں کے آثار سب دھو کر مٹا دیئے جب حضور اقدس ﷺ سے فرمایا کہ اب کوئی نشان باقی نہ رہا اس وقت اندر رونق افروز

ہوئے اتفاق سے بعض تصاویر مثل تصویر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نشان باقی رہ گیا تھا پھر نظر فرمائی تو حضرت مریم کی تصویر بھی

صاف نہ دھلی تھی، حضور پر نور ﷺ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ڈول پانی منگا کر بنفس نفیس کپڑا اتار کر ان کے مٹانے میں

شرکت فرمائی اور ارشاد فرمایا: اللہ کی ماریں تصویر بنانے والوں پر۔

قارئین کرام خود فیصلہ فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام جو مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہیں مگر سرور عالم ﷺ نے ان کی تصویر کو کعبہ شریف سے مٹایا تو

پھر پیروں کی تصویروں کو اپنے گھروں میں سجانا اور بطور تبرک رکھنا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے،

پروردگار عالم ہر مسلمان کو ان غلط حرکتوں سے محفوظ رکھے۔

محرم الحرام کے موقع پر ملک کے اکثر حصوں میں تعزیہ بنایا جاتا ہے اور کہیں ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ کی شکلیں بنائی جاتے ہیں، اور معاذ اللہ تصور کیا جاتا ہے اس میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے اس پر پھول، ہار، چادر وغیرہ ڈالتے ہیں۔ منٹیں مانتے ہیں شیرینی، مالیدہ، شربت پر نیاز دلاتے ہیں، پیسہ اور لڈولٹاتے ہیں، پھر دسویں محرم کو اس تعزیہ کو دفن کیا جاتا ہے، ان خرافات سے متعلق امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

”تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ حضور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و بظا صلوٰۃ اللہ تعالیٰ وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بیت تبرک مکان میں رکھنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز اور ایسی چیزیں کے معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز جیسے صد ہا سال سے طبقہ بہ طبقہ ائمہ دین علمائے معتمدین فطین شریفین حضور سید الکونین ﷺ کے نقشے بنائے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرمائے ہیں جسے اشتباہ ہو امام علامہ تلمسانی کی فتح المعال وغیرہ مطالعہ کرے، مگر جہاں بے خرد نے اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صد ہا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں اول تو نفس تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی ہر جگہ نئی تراشیں نئی گڑھت جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت پھر کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بیہودہ طمطراق پھر کوچہ بکوچہ

دشت بہ دشت اشاعت غم کے لئے اس کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازی کی شور انگلی کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف، کوئی سجدہ میں گرا ہے کوئی ان مایہ بدعات کو معاذ اللہ جلوہ گاہ حضرت امام علی جدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سمجھ کر اس امر کی پنی سے مرادیں مانگتا، منٹیں مانتا ہے حاجت روا جانتا ہے پھر باقی تماشے باجے مردوں عورتوں کا راتوں کو میل اور طرح طرح کے بے ہود کھیل ان سب پر طرہ ہیں۔ غرض عشرہ محرم الحرام کو اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بامرکت و محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا، ان بے ہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا، پھر وبال ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا۔ ریادہ و تفاخر علانیہ ہوتا ہے پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے، روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں رزق الہی کی بے ادبی ہوتی ہے، مال کی اضاعت ہو رہی ہے مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں۔ اب بہار عشرہ کے پھول کھلے تاشے باجے بجتے چلے طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی، میلوں کی پوری رسوم جشن یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا یہ ساختہ تصویریں، بیچھا حضرات شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے جنازے ہیں کچھ نوچ ناچ باقی توڑنا توڑدن کر دیئے یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم و وبال جدا گانہ رہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ حضرات شہدائے کربلا علیم الرضوان والثناء کا ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے۔ اور بری باتوں سے توبہ عطا فرمائے



آمین۔ اب کہ تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے ہاں اگر اہل اسلام صرف جائز طور پر حضرات شہدائے کرام علیہم الرضوان المقام کی ارواح طیبہ کو ایصالِ ثواب کی سعادت پر اقتصار کرتے تو اس قدر خوب و محبوب تھا اور اگر نظر شوق و محبت میں نقلِ روضہ انور کی بھی حاجت تھی تو اسی قدر جائز پر قناعت کہ صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اپنے مکانات میں رکھتے اور اشاعتِ غم اور تصنعِ الم و نوحہ زنی و ماتم و دیگر امور شنیعہ و بدعاتِ قطعیہ سے بچتے اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا مگر اب ایسی نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لئے ابتلائے بدعات کا اندیشہ ہے لہذا روضہ اقدس کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے بلکہ کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے اور اسے بقصد تبرک بے آمیزش منہیات اپنے پاس رکھے۔

دوسری جگہ یوں تحریر فرماتے ہیں:

تعزیہ راجحہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں اور تعظیم و عقیدت سخت حرام و اشد بدعت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے، آمین

محرم الحرام کی مجلسوں میں غیر مستند کتابوں کے واقعات اور شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں اور ناخواندہ مقرر عوام خوش کرنے کے لئے من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں، مرثیہ پڑھا جاتا ہے، امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

شہادت نامے نظم یا نثر جو آج کل عوام میں رائج نہیں اکثر روایات باطلہ و بے سرو پا سے مملو اور کاذب موضوع پر مشتمل ہیں ایسے بیان کا

پڑھنا سننا وہ شہادت نامہ ہو خواہ کچھ اور مجلس میلاد مبارک میں ہو خواہ کہیں وہ مطلقاً حرام و ناجائز ہے خصوصاً جب کہ وہ بیان ایسے خرافات کو متضمن ہو جس سے عوام کے عقائد میں زلل آئے کہ پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرما کر امام حجۃ الاسلام محمد غزالی قدس سرہ وغیرہ ائمہ کرام نے حکم دیا کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے۔

ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

کتب شہادت جو آج کل رائج ہیں اکثر حکایات موضوعہ و روایات باطلہ پر مشتمل ہیں یو ہیں مرثیے ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا گناہ و حرام ہے حدیث میں ہے:

نہی رسول اللہ ﷺ عن المراثی

رسول اللہ ﷺ نے مرثیوں نے منع فرمایا۔

آج معاشرہ میں یہ عقیدہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں تیترا لڑکا پیدا ہو تو لوگ اسے نحوست سے تعبیر کرتے ہیں زحمت اور پریشانی کا باعث بتاتے ہیں اور اگر تیتری لڑکی ہو تو اسے فال نیک اور بلند نصیب تصور کرتے ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

یہ محض باطل، زمانے اوہام اور ہندوانہ خیالات شیطانیہ ہیں ان کی پیروی حرام ہے۔

فلم سے معاشرے میں جہاں اخلاقی بے راہ روی اور بے شمار بد اعمالیاں پیدا ہو گئیں ہیں وہیں یہ لعنت بھی بری طرح گھر کر گئی ہے کہ مرد عورتوں کا لباس پہننے لگے ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس استعمال کرنے لگی ہیں، مردوں نے عورتوں کی طرح کاندھے سے نیچے لہجے لہجے بال رکھنا شروع کر دیئے ہیں اور عورتیں مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال رکھنے لگی ہیں اور المیہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا مسلم معاشرہ بھی ملوث ہے اور اس بد چلنی، بے

حسی اور بد اخلاقی کو ترقی اور نئی روشنی کا نام دیا جاتا ہے مگر سچ بتائیے یہ ترقی ہے یا تنزلی، یہ روشنی ہے یا تاریکی آئیے پڑھئے امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں:

حرام ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و التشبهات من النساء بالرجال

اللہ کی لعنت ان مردوں پر کہ کسی بات میں عورتوں سے مشابہت پیدا کریں اور ان عورتوں پر کہ مردوں سے۔

ایک عورت مردوں کی طرح کمان کا ندھے پر لٹکائے جاتی تھی اسے دیکھ کر یہ فرمایا۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی گئی کہ ایک عورت مردانہ خود پہنتی ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر کہ کوئی وضع مردانی اختیار کرے، کمان اجزائے بدن نہیں جب ان میں مشابہت پر لعنت فرمائی تو بال اجزائے بدن ہیں ان میں مشابہت کس درجہ سخت تر ہو گئی، لہذا عورت کو حرام ہے کہ اپنے بال تراشے کہ اس میں مردوں سے مشابہت ہے یوہیں مردوں کو حرام ہے کہ اپنے بال عورتوں کی طرح بڑھائیں اور وجہ دونوں جگہ وہی مشابہت ہے کہ حرام و موجب لعنت ہے۔

آج کا مسلمان فیشن پرستی میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اپنے مذہبی شعار کو خود اپنے ہاتھوں دفن کر رہا ہے، واڑھی اسلام کا شعار اور نبی محترم ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت جلیلہ و عادت کریمہ تھی مگر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس سنت سے محروم نظر آ رہا ہے، مگر یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے مذہبی شعار سے گریزاں ہیں اور غیروں کی تہذیب کو اپنی زندگی میں داخل کر کے ہی فخر و انبساط اور مسرت و شادمانی

محسوس کرتے ہیں، امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

واڑھی حد مقرر شرع سے کم نہ کرانا واجب اور حضور سید عالم ﷺ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت دائمی اور اہل اسلام کے شعار سے ہے اور اس کا خلاف ممنوع و حرام اور کفار کا شعار۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

عشر من الفطرة قص الشارب و اعف باللحية الحديث

یعنی دس چیزیں سنت قدیم انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہیں ان میں سے مونچھیں کم کرنا اور واڑھی حد شرع تک چھوڑ دینا رواہ مسلم۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح میں فرماتے ہیں خلق کردن لحيہ حرام است۔ اور حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

خالفوا المشركين و اوفوا اللحي و اعفوا الشوارب

مشرکین سے مخالفت کرو واڑھیاں پوری اور مونچھیں کم کر دو۔

اور بعض احادیث میں وارد مونچھیں کم کراؤ اور واڑھیاں چھوڑ دو اور مجوسی کی شکل نہ بناؤ۔ سنت سنیہ رسول اللہ ﷺ کو ترک اور مشرکین اور مجوس کی رسم اختیار کرنا مسلمان کامل کا کام نہیں علاوہ بریں اس میں تغیر خلقت خدا بطریق ممنوع ہے۔

آج بعض ماعاقبت اندیش یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ واڑھی رکھ کر بھی بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور نماز روزے سے کوسوں دور ہیں تو پھر ایسی واڑھی رکھنے سے کیا فائدہ! اس سے تو بہتر ہے کہ اس کا ظاہر خلاف سنت ہے اور باطن آراستہ ہو اور نماز روزہ کی پابندی کرنا ہو۔ امام احمد رضا قدس سرہ یہ فرماتے ہیں:

اس میں شک نہیں کہ اصلاح باطن آرائش ظاہر سے اہم تر مگر اس کے ساتھ فساد ظاہر و ارتکاب محرمات و ممنوعات کی کس نے اجازت دی۔



تعمیل حکم شرع و اتباع سنت شارع کہ داڑھی بڑھانے اور نیچی رکھنے میں پائی جاتی ہے وہ اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہے کہ باطن میرا آراستہ ہے اگر فی الواقع باطن اس کا زیور صلاح سے مزین اور بحکم خدا و رسول منقاد ہوتا تو اتباع سنت چھوڑ کر شعار کفر و شرک و بدعت کی پیروی پسند نہ کرتا اور حکم شرع سن کر سر جھکاتا اپنے فعل شنیع پر مصر نہ ہوتا۔

آج کثرت سے لوگ اپنی داڑھی اور بالوں کو سیاہ کرنے کے لئے کالا خضاب استعمال کرتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ خضاب لگانے سے خوب و اور جوان نظر آتا ہوں مگر شاید وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ چہرے کی شکلیں ان کی کہولت و بڑھاپے کا اعلان کر رہی ہیں، آئیے ذرا امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریر پر تنویر کا مطالعہ کیجئے:

صحیح مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ و معتبرہ مطلق۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور سید عالم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی خالص سپید دیکھ کر ارشاد فرمایا: غَيِّرُوا هَذَا بَشْيٍّ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ۔ اس سپیدی کو کسی چیز سے بدل دو اور سیاہ رنگ سے بچو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں:

غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَقْرَبُوا السَّوَادَ

سپیدی تبدیل کرو اور سیاہ رنگ کے پاس نہ جاؤ۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حضور ﷺ فرماتے ہیں:

يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ

کچھ اصل الحمام لا یجملون رائحة الجنة

آخر زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے وہ جنت کی بو نہ سونگھیں گے۔

جنگلی کبوتروں کے سینے اکثر سیاہ و نیلگوں ہوتے ہیں نبی ﷺ نے ان کے بالوں اور داڑھیوں کو ان سے تشبیہ دی، ابن سعد عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرسل راوی سید عالم ﷺ فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

جو سیاہ خضاب کرے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔

نیز کبیر طبرانی میں بسند حسن حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے حضور پر نور ﷺ فرماتے ہیں:

مَنْ مَثَلَ بِالشَّعْرِ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلَاقٌ

جو بالوں کی ہیئت بگاڑے اللہ کے یہاں اس کے لئے کچھ حصہ نہیں۔

علماء فرماتے ہیں ہیئیات بگاڑنا یہ کہ داڑھی موڈھے یا سیاہ خضاب کرے۔ ابن سعد طبقات میں عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی

نہی رسول اللہ ﷺ عن الخضاب بالسواد

رسول اللہ ﷺ نے سیاہ خضاب سے منع فرمایا۔

افسوس کہ ذرا سے نفسانی شوق کے لئے آدمی ایسی نختیوں کو کوارا کرے، جمہور ائمہ اعلام کے نزدیک سیاہ خضاب منع ہے علماء جب کراہت مطلق بولتے ہیں تو اس سے کراہت تحریم مراد لیتے ہیں جس کا مرتکب گناہگار و مستحق عذاب نار ہے۔

اس ٹوہم پرستی کے دور میں جہاں بہت سے غلط افکار نے فروغ پایا انہیں میں ایک

یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کانہوں اور جوشیوں سے ہاتھ دکھا کر اپنے اچھے برے کی تقدیر کو دریافت کرتے ہیں اور اس مرض میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں، دیکھئے اما احمد رضا قدس سرہ کیا تحریر فرماتے ہیں:

کانہوں اور جوشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا بُرا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو یعنی جو یہ بتائیں حق ہے تو کفرِ خالص ہے اسی کو حدیث میں فرمایا:

فقد كفر بما نزل علي محمد ﷺ

اور اگر بطور اعتقاد فیض نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے اس کو حدیث میں فرمایا:

لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحاً

اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔

اور اگر بطور ہزل و استہزاء تو عبث و مکروہ و حماقت ہے، ہاں اگر بغرض تعجیز ہو تو حرج نہیں۔

آج کچھ لوگ عقیدت میں مزارات کو سجدہ کرتے ہیں اور اسلام کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ ہماری شریعت نے غیر اللہ کے لئے سجدہ عبادت کو کفر و شرک اور سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے، اسی سلسلہ میں امام احمد رضا نے الزبدۃ الزکیۃ تحریم سجود الخیۃ کے نام سے ایک جامع اور مبسوط رسالہ تحریر فرمایا جس میں متعدد آیات قرآنی، چالیس احادیث مقدسہ اور تقریباً ڈیڑھ سو نصوص فقیہ سے ثابت فرمایا کہ عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے حرام۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تابع فرمان! جان اور یقین جان کے سجدہ حضرت عزت عز جلالہ کے سوا کسی کے لئے

نہیں۔ اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرکِ مبہن و کفرِ مبہن ہے اور سجدہ تحیت حرام و گناہ کبیرہ بالیقین۔ اور اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین، ایک جماعت فقہاء سے تکفیر منقول اور عند التحقیق کفرِ صوری پر محمول۔

صحابہ کرام نے حضور سے سجدہ تحیت کی اجازت چاہی اس پر ارشاد ہوا کیا تمہیں کفر کا حکم دیں۔ معلوم ہوا کہ سجدہ تحیت ایسی قبیح چیز ایسا سخت حرام ہے جسے کفر سے تعبیر فرمایا جب خود حضور اقدس ﷺ کے لئے سجدہ تحیت کا ایسا حکم پھر اوروں کا کیا ذکر۔

اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے چالیس احادیث سے سجدہ تحیت کے حرام ہونے کا ثبوت فراہم فرمایا ہے یہاں پر صرف تین احادیث نقل کرتا ہوں:

قال جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله اخبرني ما حق الزوج على الزوجة قال لو كان ينبغي لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها

ایک عورت نے بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ والتحمیۃ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! شوہر کا عورت پر کیا حق ہے؟ فرمایا: اگر کسی بشر کو لائق ہوتا کہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو فرماتا کہ جب شوہر گھر میں آئے اسے سجدہ کرے اس فضیلت کے سبب جو اللہ نے اس پر رکھی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی:

دخل النبي ﷺ حائطاً فجاء بعيرٍ فسجد له فقالوا هذه



بهيمة لا تعقل سجدت لك و نحن نعقل فنحن احق ان نسجد لك فقال ﷺ لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها حضور اقدس ﷺ ایک باغ میں تشریف لے گئے ایک اونٹ نے حاضر ہو کر حضور کو سجدہ کیا، صحابہ نے عرض کی یہ بے عقل چوپایہ ہے اس نے حضور کو سجدہ کیا ہم تو عقل رکھتے ہیں ہمیں زیادہ لائق ہے کہ حضور کو سجدہ کریں، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے آدمی کو لائق نہیں کہ آدمی کو سجدہ کرے ایسا مناسب ہوتا تو میں عورت کو فرماتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اس کا اس پر ہے۔

انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے:

قال دخل النبي ﷺ حائطاً للانصار و معه ابو بكر و عمر في رجال من الانصار في الحائط غنم فسجدن له فقال ابو بكر يا رسول الله كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي فِي أُمَّتِي أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

حضور انور ﷺ انصار کے ایک باغ میں تشریف فرمائے صدیق و فاروق اور کچھ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمراہ تھے باغ میں بکریاں تھیں انہوں نے حضور کو سجدہ کیا صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ! ان بکریوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں اس کے کہ حضور کو سجدہ کریں، فرمایا: بے شک میری امت میں نہ چاہیے کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے ایسا مناسب ہوتا تو میں عورت کو شوہر کے سجدہ کا حکم فرماتا۔

قبروں پر چراغ بتی جلانا ایک عام بات ہو چکی ہے بلکہ کچھ لوگوں نے اسے ضرورت میں شامل کر لیا ہے امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

قبروں کی طرف شمع لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے۔

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

اصل یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

انما الاعمال بالنیات

اور جو کام دینی فائدے اور دنیاوی نفع جائز سے خالی ہو عبث ہے اور عبث مکروہ ہے اس میں مال صرف کرنا اسراف ہے اور اسراف حرام ہے قال اللہ تعالیٰ:

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

یونہی لو بان اور اگر بتی کے سلسلہ میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

عود، لو بان وغیرہ کوئی چیز نفس قبر پر رکھ کر جلانے سے احتراز کرنا چاہئے اگرچہ کسی برتن میں ہو اور قریب قبر سلگانا بلکہ یوں کہ صرف قبر کے لئے جلا کر چلا آئے تو ظاہر منع ہے۔ اسراف اور اسراف مال۔

میت صالح اس غوغے سے سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی نسیمیں، بہشتی پھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں دنیا کے اگر بتی لو بان سے غنی ہے۔

آج کچھ ناخواندہ حضرات اور علم شریعت اور طریقت سے نا آشنا سجادگان کو یہ دیکھا گیا کہ وہ مزارات کا طواف کرتے ہیں اور اپنی اندھی عقیدت کا سہارا لے کر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کی شریعت قطعی اجازت نہیں دیتی۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

مزار کا طواف کہ محض بہ نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بہ خانہ کعبہ ہے مزار کو بوسہ نہ دینا چاہئے، علماء اس میں مختلف

ہیں اور بہتر بچنا اور اسی میں ادب زیادہ ہے، آستانہ بوسی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس میں شریعت میں ممانعت نہیں آئی اور جس چیز کو شرع نے منع نہ فرمایا منع نہیں ہو سکتی۔

آج کل اکثر لوگ حضور سید عالم ﷺ کے اسم مبارک کے ساتھ صلعم یا ص یا صل لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ بدعت شنیعہ وہابیوں سے شروع ہوئی ہے اور اب اس مرض میں سنی حضرات بھی مبتلا ہیں۔

صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے نام پاک کے ساتھ تحریر یا تقریر اور دشریف لکھنا مومن کے لئے ضروری ہے۔ بخل، کنجوسی، حسد، وقت اور کاغذ کی بچت کی وجہ سے درود شریف کے بجائے مہمل اشارات پر عمل کرنا خارجیوں کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتداء بنو امیہ کے زمانے میں ہوئی۔ نجدیہ نے اسے اپنایا اور وہابیہ نے اسے پروان چڑھایا اور یہ نام پاک حرکت آج بھی ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔

درود شریف جو ایک نہایت پاکیزہ اور جامع دعائیہ کلمہ ہے اور وہ زبان و دہن کس قدر مقدس ہیں جن سے درود شریف کا ورد ہوتا ہے اور اس پاکیزہ لب کو کیا کہیے جس کو ملائکہ اپنے نوری پروں سے مس کرتے ہیں اور خوش ہو کر چوم لیتے ہیں ایک مومن کے لئے اس سے بڑھ کر معراج زندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی سردار مدینہ سرور قلب و سینہ ﷺ کا نام ہی آئے تو قلب و زبان سے درود شریف کے نغمے ابلنے لگیں۔

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

سب سے پہلے جس شخص نے درود پاک کا کلمہ مہمل میں لکھا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا قانونِ قدرت بھی یہی تھا کہ جو چور مال کی چوری کرنا ہے اس کے متعلق قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہے:

﴿فَأَقْطَعُ آيْدِيَهُمَا﴾

کاٹ دو ان کے ہاتھ۔

اور اس بد نصیب نے مال تو نہیں مال سے قیمتی چیز عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کی چوری کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم کے نزدیک مال کی چوری سے عظمتِ ﷺ کی چوری کی سزا سخت سے سخت تر ہے:

قُطِعَ ذَرْبُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ

اس کی نسل ہی ختم کر دی گئی۔

امام محی الدین علیہ الرحمہ کتاب الاذکار میں لکھتے ہیں:

يَكْرَهُ الزَّمْرُ بِالصَّلَاةِ وَ التَّرْقُمُ بِالْكِتَابَةِ بَلْ يَكْتَبُ بِكَمَالِهِ وَلَا لِيَسَامَ مِنْهُ إِلَّا حَرَمٌ خَطَأً عَظِيماً

درود شریف کو اشاروں کنایوں سے لکھنا مکروہ تحریمہ ہے بلکہ پورا درود شریف لکھے کلمہ مہمل سے درود شریف لکھنا حرام، گناہ عظیم ہے۔

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

(تحفۃ الصلوٰۃ فی النبی المختار ص ۶۲-۶۳)

اب آئیے امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریر پر تنویر سے دل و نگاہ کو تازگی بخشنے ہیں:

درود شریف کی جگہ جو عوام و جہال صلعم یا ص یا ص یا ص لکھا کرتے ہیں محض مہمل و جہالت ہے القلم احدی اللسانین جیسے زبان سے درود شریف کے عوض یہ مہمل کلمات کہنا درود کو ادا نہ کرے گایوں ہی ان مہملات کا لکھنا درود لکھنے کا کام نہ دے گا ایسی کوتاہ قلمی سخت محرومی ہے، میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں ایسے لوگ ”قَبْلَ الذِّیْنِ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذِّیْ قِيلَ لَهُمْ“ میں نہ داخل ہوں، نام پاک کے ساتھ ہمیشہ پورا درود لکھا جائے۔